

قرآن مجید The Glorious Qur'an

The Authenticator of Revealed Books

مصدق کتب سماوی

1 . اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۚ

اللہ (جو معبود برحق ہے) اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہمیشہ زندہ رہنے والا ﴿﴾ اس نے (اسے محمد ﷺ) آپ پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی (آسمانی) کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی ﴿﴾ (3: 2/ 3)

Allah! There is no God but He,-the Living, the Self-Subsisting, Eternal. ﴿﴾ It is He Who sent down to you, in truth, the Book, confirming what went before it; and He sent down the Torah and the Gospel. ﴿﴾

(3: A'l-e-Imran\2-3)

2 . وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ نَصَدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿﴾

اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے۔ ہاں جو اس سے پہلے ہیں۔ ان کی تصدیق کرتا ہے اور ان ہی کتابوں کی تفصیل ہے اس میں کچھ شک نہیں یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ﴿﴾ (10: f : 10)

This Qur'an is not such as can be produced by other than Allah; on the contrary it is a confirmation of that went before it, and a fuller explanation of the Book - wherein there is no doubt - from the Lord of the worlds. ﴿﴾ (10: Yunas\37)

3 . وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۗ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِمَا نَزَّلْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ التَّوْرَةِ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿﴾

اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی (لوگوں کے لئے) رہنما اور رحمت۔ اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے اسی کی تصدیق کرنے والی تاکہ ظالموں کو ڈرائے۔ اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنائے۔ ﴿﴾ (46: « : 12)

And before this, was the Book of Moses as a guide and a mercy:

And this Book confirms (it) in the Arabic language to admonish the unjust and as glad tidings to those who do right. ﴿۴۶﴾ (46: Al-Ahqaf\12)

4. وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبْرُكٌ مُصَدِّقٌ لِّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿۴۶﴾

اور یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بابرکت جو اپنے سے پہلی (کتابوں) کی تصدیق کرتی ہے اور (جو) اس لئے (نازل کی گئی ہے) کہ تم مکے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ ﴿۴۶﴾ (6: Al-Ana'm\92)

And this is a Book which We have sent down, bringing blessings, and confirming which came before it: that you may warn the mother of cities and all around her. Those who believe in the Hereafter believe in this and they are guardful in their prayers. ﴿۶﴾ (6: Al-Ana'm\92)

Revelation Of Qur'an

تنزیل القرآن

1. الْحَرَّتِ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۳﴾
الف لام میم راء۔ (اے محمد) یہ کتاب (الہی) کی آیتیں ہیں۔ اور جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ﴿۱۳﴾ (13: Ar-Ra'd\1)

Alif Lam Meem Ra'a. These are the verses of the Book: that which has been revealed to you from your Lord is the truth, but most of the people believe not. ﴿۱۳﴾ (13: Ar-Ra'd\1)

2. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مَكَّةَ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴿۱۷﴾
اور ہم نے قرآن کو جزو جزو کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔ ﴿۱۷﴾ (17: Bani Israeal / Al-Isra\106)

And Qur'an which We have divided into parts that you might recite it to people at intervals: We have revealed it by stages. ﴿۱۷﴾

(17: Bani Israeal / Al-Isra\106)

3. وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۰۶﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿۱۰۷﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿۱۰۸﴾ بِلسانِ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿۱۰۹﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۱۰﴾ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۱۱۱﴾ وَكُوِّنَا نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿۱۱۲﴾ فَفَرَّكَهٗ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۳﴾

اور یہ قرآن پروردگار عالم کا اُتارا ہوا ہے ﴿﴾ اس کو امانت دار فرشتے لے کر اُتر ہے ﴿﴾ (یعنی اس نے) آپ کے دل پر (القا) کیا ہے تاکہ آپ متنبہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں ﴿﴾ اور (القا بھی) فصیح عربی زبان میں (کیا ہے) ﴿﴾ اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں (لکھی ہوئی) ہے ﴿﴾ کیا ان کے لئے یہ سند نہیں ہے کہ علمائے بنی اسرائیل اس (بات) کو جانتے ہیں ﴿﴾ اور اگر ہم اس کو کسی غیر اہل زبان پر اُتارتے ﴿﴾ اور وہ اسے ان (لوگوں کو) پڑھ کر سناتا تو یہ اسے (کبھی) نہ مانتے۔ ﴿﴾ (26: 192/v-199)

Verily this is a revelation from the Lord of the worlds: ﴿﴾ the faithful spirit brought it. ﴿﴾ to your heart and mind, that you may be a warner. ﴿﴾ In the plain Arabic language. ﴿﴾ without any doubt it is in the scriptures of former peoples. ﴿﴾ Is it not a proof for them that the doctors of the children of Israel knew it? ﴿﴾ Had We revealed it to any of the non-Arabs, ﴿﴾ and had he recited it to them, they would not have believed in it. ﴿﴾ (26: Ash-Shuara\192-199)

4. الرَّسْمُ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿﴾

الرا۔ یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں ﴿﴾ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ ﴿﴾

(12: h / 1-2)

Alif Lam Ra. These are the verses of the Book that is manifest. ﴿﴾ Surely We have revealed it-an Arabic Qur'an- that you may understand. ﴿﴾ (12: Yusuf\1-2)

5. اللَّهُ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿﴾

الم ﴿﴾ اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہان کے پروردگار کی طرف سے

ہے۔ ﴿﴾

(32: 1/ | 1-2)

Alif Lam Meem. (This is) the revelation of the Book in which there is no doubt, - from the Lord of the Worlds. ﴿﴾ (32: AS-Sajdah\1-2)

6. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ﴿﴾

رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور (جس میں) ہدایت کی کھلی نشانیاں

ہیں اور (جو حق و باطل کو) الگ الگ کرنے والا ہے۔ ﴿﴾ (2: 185/2)

Ramadhan is the month in which was sent down the Qur'an, as a guide to mankind, also clear signs for guidance and the criterion between right and wrong. ﴿﴾ (2: Al-Baqarah\185)

7. **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ**

ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ (97: 1)

We have indeed revealed this in the night of power and value:

(97:Al-Qadr\1)

8. **حَمْدٌ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ** **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ** **فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ**
أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ

ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا ہم تو متنبہ کرنے والے ہیں اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کئے جاتے ہیں (یعنی) ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی (پیغمبر کو) بھیجتے ہیں۔ (44: 1-5)

Ha-Mim. By the Book that makes things manifest. - We revealed it during a blessed night: for indeed We are ever warning. Therein every affair of wisdom is made distinct. A command from Us. For We are ever sending messages. (44: Ad-Dukhan\1-5)

قرآن کی صفات

Qur'anic Attributes

1. **وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا**

اور ہم قرآن (کے ذریعے) سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لئے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے

حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ (17: بنی اسرائیل \ ۸۲/m)

We send down (stage by stage) in the Qur'an that which is a healing and a mercy to those who believe: to the unjust it causes nothing but loss after loss. (17: Bani Israael / Al-Isra\82)

2. **الرَّأْسِ تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ**

آلہم۔ یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیتیں ہیں۔ (10: f)

Alif Lam Raa These are the verses of the Book of Wisdom.

(10:Yunas\1)

3. **اللَّهُ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ**

الم یہ کتاب (قرآن مجید) اس میں کچھ شک نہیں (کہ کلام اللہ ہے۔ اللہ سے) ڈرنے والوں کی رہنما

ہے (2: 1/2-۲)

Alif Lam Meem This Book, there is no doubt in it, is a guide to

those who are guard full (against evil). ﴿2: Al-Baqarah\ 1-2﴾

4. فَالَّذِينَ يَسْرُرُونَ بِلسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢﴾

ہم نے اس (قرآن) کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ ﴿٢﴾

(44: ©/58)

Verily, We have made this (Qur'an) easy, in your language, in order that they may understand. ﴿44: Ad-Dukhan\58﴾

5. وَكَذَلِكَ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿٥٤﴾

اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ ﴿٥٤﴾ (54: 17/14)

And certainly We have made the Quran easy for remembrance, but is there anyone who will mind? ﴿54: Al-Qamar\17﴾

6. حَمِّمٌ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٤١﴾ كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴿٤١﴾ فَاعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٤١﴾

حم۔ ﴿٤١﴾ (یہ کتاب اللہ) رحمن اور رحیم (کی طرف) سے اتری ہے ﴿٤١﴾ کتاب جس کی آیتیں واضح (المعانی) ہیں (یعنی) قرآن عربی ان لوگوں کے لئے جو سمجھ رکھتے ہیں ﴿٤١﴾ جو بشارت بھی سناتا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے لیکن ان میں سے اکثروں نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔ ﴿٤١﴾ (41: 1/1-14)

Ha Mim! ﴿٤١﴾ A revelation from the Beneficent, the Merciful. ﴿٤١﴾ A Book of which the verses are made plain, an Arabic Quran for a people who know: ﴿٤١﴾ A herald of good news and a warner, but most of them turn aside so they hear not. ﴿41: Ha-Meem As-Sajdah / Fussilat\1-4﴾

7. الرَّاقِ كِتَابٌ أَحْكَمْتُ آيَاتِهِ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿١١﴾ إِلَّا اللَّهُ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ ﴿١١﴾ وَبَشِيرٌ ﴿١١﴾

الرا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور اللہ حکیم وخبیر کی طرف سے بہ تفصیل بیان کر دی گئی ہے ﴿١١﴾ (وہ یہ) کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور میں اس کی طرف سے تم کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ ﴿١١﴾ (11: g / 1-1)

Alif Lam Ra'a.- A Book, whose verses are most perfected, then are they made plain, from the Wise, All-Aware: ﴿١١﴾ That you shall not serve but Allah; surely I am a warner for you from Him and a giver of good news, ﴿١١﴾ (11: Hud\1-2)

8. ذَلِكَ وَمِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ﴿١١﴾

اے پیغمبر یہ ان (ہدایتوں) میں سے ہیں جو اللہ نے دانائی کی باتیں آپ کی طرف وحی کی ہیں۔ ﴿

(17: بنی اسرائیل \ 39/m)

These are among the (precepts of) wisdom, which your Lord has revealed to you. ﴿ (17: Bani Israael / Al-Isra\39)

9. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿۱۷﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿۱۸﴾ لَا يَسْمَعُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿۱۹﴾ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۰﴾

بے شک یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے ﴿ (جو) کتاب محفوظ میں (لکھا ہوا ہے) ﴿ اس کو وہی ہاتھ لگاتے

ہیں جو پاک ہیں ﴿ پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ ﴿ (56: \ 77/77-80)

This Qur'an, is indeed most honourable, ﴿ in book well-guarded, ﴿ which none shall touch but those who are clean. ﴿ A revelation from the Lord of the worlds. ﴿ (56: Al-Waqia'h\77-80)

10. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَىٰ حَكِيمٍ ﴿۱۰﴾

اور بے شک یہ بڑی کتاب (یعنی لوح محفوظ) میں ہمارے پاس (لکھی ہوئی اور) بڑی فضیلت اور حکمت والی

ہے۔ ﴿ (43: \ 4)

And verily, it is in the Mother Book with Us, sublime, full of wisdom. ﴿ (43: Az-ZuKhruf\4)

11. بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿۱۱﴾ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿۱۲﴾

(یہ کتاب ہزل و بطلان نہیں) بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے ﴿ لوح محفوظ میں (لکھا ہوا)۔ ﴿

(85: \ 21-22)

Nay, this is a glorious Qur'an, ﴿ In a Tablet preserved! ﴿

(85: Al-Buruj\21-22)

12. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿۱۲﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴿۱۳﴾ تَنْزِيلٌ مِّن حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿۱۴﴾

اور یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے ﴿ اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ (اور) دانا

(اور) خوبیوں والے (اللہ) کی اتاری ہوئی ہے۔ ﴿ (41: \ 41-42)

And indeed it is a Book of exalted power. ﴿ No falsehood can approach it from before or behind it: It is revealed by the Wise, the Praise Worthy. ﴿ (41: Ha-Meem As-Sajdah / Fussilat\41-42)

13. هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴿۱۳﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي

قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴿۱۴﴾ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴿۱۵﴾

وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ﴿۱۶﴾ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ﴿۱۷﴾ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿۱۸﴾

وہی تو ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں (اور) وہی اصل کتاب ہیں اور بعض

تثابہ ہیں تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ تثابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں
 حالانکہ مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جو لوگ علم میں دست گاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان
 لائے یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ ﴿3: ۷۱﴾

He it is Who has revealed to you the Book: In it are verses basic of established meanings, they are the foundation of the Book: others are allegorical. But those in whose hearts is perversity follow the part thereof that is allegorical, seeking discord, and searching for its misinterpretation, but no one knows its interpretation except Allah. And those who are firmly grounded in knowledge say: "We believe in the Book; the whole of it is from our Lord:" and none will heed except people of understanding. ﴿3: A'l-e-Imran\7﴾

14 . اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿۱۵﴾

بے شک یہ (کتاب) نصیحت ہمیں نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ ﴿15: k/9﴾

Verily We have, without any doubt, sent down the reminder and We are assuredly its Guardian. ﴿15: Al-Hijr\9﴾

15 . مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرٰى وَلٰكِن تَصٰدِقُ الَّذِيۡنَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهٰدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۱﴾

یہ (قرآن) ایسی بات نہیں ہے جو (اپنے دل سے) بنائی گئی ہو بلکہ جو (کتابیں) اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان

کی تصدیق (کرنے والا) ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ﴿11: h/11﴾

It is not a tale invented, but a confirmation of what went before it, - a detailed exposition of all things, and a guidance and a mercy to a people who believe. ﴿12: Yusuf\11﴾

16 . اِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ۗ فَمَنْ اِهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلٰیهَا ۗ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿۳۹﴾

ہم نے آپ پر کتاب لوگوں (کی ہدایت) کے لئے سچائی کے ساتھ نازل کی ہے۔ تو جو شخص ہدایت پاتا ہے تو

اپنے (بھلے) کے لئے اور جو گمراہ ہوتا ہے گمراہی سے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اور (اے پیغمبر) آپ ان کے ذمہ دار

نہیں ہو۔ ﴿39: ۴۱/۴۱﴾

Surely We have revealed to you the Book with the truth for the sake of mankind; so whoever follows the right way, it is for his own soul and whoever errs, he errs only to its detriment; and you are not a custodian over them. ﴿39: Az-Zumar\41﴾

17. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ لَغُرَّتْ عَنْهُمْ سِيئاتِهِمْ
وَاصْلَحَ بِآلِهِمْ ﴿

اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو (کتاب) محمد ﷺ پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے ان سے ان کے گناہ دور کر دیئے اور ان کی حالت سنواری۔ ﴿

(47: 2/ -)

And those who believe and do good, and believe in what has been revealed to Muhammad (SAW), and it is the very truth from their Lord, He will remove their evil from them and improve their condition. ﴿

(47: Muhammad\ 2)

18. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿
کیا ان لوگوں کے لئے یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ کچھ شک

نہیں کہ مومن لوگوں کے لیے اس میں رحمت اور نصیحت ہے۔ ﴿ (51/y:29)

Is it not enough for them that We have revealed to you the Book which is recited to them? Most surely there is mercy in this and a reminder for a people who believe. ﴿ (29: Al-Ankabut\51)

19. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿
اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ سنتا

جانتا ہے۔ ﴿ (6: 115/b)

The word of your Lord has been accomplished in truth and in justice: None can change His words: for He is the Hearer, the knower. ﴿

(6:Al-Ana'm\115)